

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

ہر دور اپنے ساتھ بہت سے ایسے معاملات بھی لے کر آتا ہے جو کسی کی پسند کے نہیں ہوتے مگر انہیں قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قدرت شاید ہمیں آزمانے کی خاطر ایسا بہت کچھ ہمارے سامنے رکھتی ہے جو ہمارے مطلب کا نہیں ہوتا بلکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا مگر پھر بھی اسے زندگی کا حصہ بناتے ہوئے چلنا پڑتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی چل رہا ہے۔ ہر صدی اپنے ساتھ ایسی تبدیلیاں لاتی رہی ہے جو گزشتہ صدیوں کے مقابلے میں بالکل نئی تھیں۔ فطری علوم و فنون کی ترقی نے انسان کو ایسا بہت کچھ دیا ہے جسے علمی و معاشی عمل کا کچرا قرار دیا جاسکتا ہے۔ قدرت ہمیں پھل دیتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی پابند کرتی ہے کہ اس کے چھلکوں کو ڈھنگ سے ٹھکانے لگائیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ماحول کی غلاظت بڑھتی ہے

(2022)

Q.7 Translation

Do not write informal words such as don't etc. Write the full form (do not).

Every ^{era} reign brings ^{with} itself such conditions ^{that} ~~which~~ are not liked by someone but ~~has~~ ^{these have} to be accepted. Sometimes it also happens that nature ~~keeps~~ ^{presents} something ~~more~~ important of us, for the sake to try us, which is not of our mean rather we ~~don't~~ ^{which is unrelated to us} have any relation with it, but still it has to be moved ~~with~~ ^{by making it} ~~being~~ a part of life. Same is also happening today, Every century leads such changes with itself ~~which~~ ^{that} were ^{completely} new compared to the previous centuries. Development of natural science science and arts give human beings a lot which can be considered as a garbage of scientific and economic processes. Nature provides us reward as well as it also binds to abide husk properly. ~~If this not occurs~~ ^{If this does not occur,} then dist of environment will be increased.

Such is paired with that, not which.

3/10